

Human Health

Sr	Questions	Answers Choice
1	خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے	A. بجورن کو B. بوڑھوں کو C. نوجوانوں کو D. ادھیر عمر لوگوں کو
2	بیموگلوین مشتمل ہے	A. آئرن پر B. ایلوٹینم پر C. کاربن پر D. پوٹاشیم پر
3	ایک بالغ انسان کا جسم مشتمل ہوتا ہے	A. 40% پر B. 50% پر C. 60% پر D. 70% پر
4	صحت برقرار رکھنے کے لئے زیادہ درکار ہوتا ہے	A. نمک B. وٹامن اے C. وٹامن بی D. وٹامن سی
5	ملسٹر گلینڈ کھلاتا ہے	A. پچوٹری گلینڈ B. ٹھوپی رانڈ گلینڈ C. ایترینیل گلینڈ D. گونینڈر
6	غذائی جزو جس کی سب سے کم مقدار میں جسم کو ضرورت ہے	A. کاربوبلاذریٹ B. پروٹین C. وٹامن D. فیٹس
7	وٹامن ڈی کی کمی سے بالغ عمر میں یونے والی بیماری ہے	A. رکتس B. اوستھی مالٹشیا C. بالجھین D. ناٹ بلاپیٹیس
8	جلوروں کے جگر میں وٹامن پلیا جاتا ہے	A. C B. B1 C. B12 D. K
9	بنیادی اعصابے تولید کو کہتے ہیں	A. شوز B. ٹیسٹیز C. اووریز D. گونینڈر
10	تھانی رانڈ گلینڈ جسامت میں بڑھ جاتا ہے	A. آیوٹین کی کمی سے B. فلور انڈ کی کمی سے C. آئرن کی کمی سے D. کیلیسیم کی کمی سے
11	غذائی انرجی کی اکائی ہے	A. جول B. نیوٹن میٹر C. ڈائی اپٹر D. کیلوری
12	جسم کو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتی ہے	A. بارمونز B. وٹامن C. فیٹس D. ایٹھی باتیز
13	وٹامن ڈی کی کمی کے باعث یہدا یونے والی بیماری ہے	A. سکرووی B. ٹی ہی C. رکتس D. اینیمیا
14	پسکریاز بناتا ہے	A. ایک بارمون B. ٹین بارمون C. دو بارمون D. چند بارمون
15	انسولین بارمون کس گلینڈ سے خارج ہوتا ہے؟	A. ایترینیل گلینڈ B. پسکریاز C. تھانی رانڈ گلینڈ D. بچوٹری گلینڈ

